


ReSPECT

(ریسپیکٹ)


ہنگامی دیکھ بھال اور علاج کے لیے تجویز کردہ منصوبے کا خلاصہ

(Recommended Summary Plan for Emergency Care & Treatment)

ہنگامی حالت میں آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہئے؟



مندرجہ ذیل جگہ آپ کے لئے ہے کوئی بھی سوال لکھیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں



ReSPECT پر مزید معلومات کے لئے ملاحظہ کریں: www.respectprocess.org.uk



MI_8755714_30.07.21_V_1

ReSPECT

(ریسپیکٹ)

ہنگامی دیکھ بھال اور علاج کے لیے تجویز کردہ منصوبے کا خلاصہ


تعارف

بحران میں، صحت کے ماہرین کو آپ کے علاج کے بارے میں تیزی سے فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں، اور شاید آپ انتخاب کرنے میں حصہ لینے کے لئے خاطر خواہ ٹھیک نہ ہوں۔

ReSPECT کا عمل آپ کو صحت کے پیشہ وروں کو ہدایت دینے کا اختیار دیتا ہے کہ آپ کے لیے کون سے علاج پر غور کیا یا نہ کیا جائے۔ یہ ایسی چیزوں کو بھی ریکارڈ کر سکتا ہے جو آپ کے لئے انتہائی اہم ہیں اور اس کو ترجیح دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ علاج جو آپ کے لئے صحیح نہیں۔

بہت سے زندگی پذیر علاجوں میں نقصان دہ خطرات شامل ہوتے ہیں، بے آرامی اور وقار کا نقصان، یا ہسپتال میں فوت ہوجانے کا خطرہ، جب کہ آپ گھر میں رہنا چاہتے تھے۔ اگر علاج سے ممکنہ فائدہ کم ہو تو بہت سے لوگ ان خطرات کو لینے کا انتخاب نہیں کرتے۔

آپ زندگی کے جس بھی مرحلے میں ہیں، ریسپیکٹ فارم ہنگامی حالات کیلئے ترجیحات اور تجاویز ریکارڈ کر سکتا ہے۔





کیا میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے بارے میں کیا لکھا گیا ہے؟

جی ہاں۔ یہ ضروری ہے کہ جو سفارشات درج ہیں وہ آپ جانتے ہوں اور آپ ان کے ساتھ آرام دہ (خوش) ہوں۔ اگر آپ کا **ReSPECT** فارم آپ کے صحت کے ریکارڈز کے ساتھ رکھا جا رہا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ براہ کرم عملے میں سے کسی کو کہیں۔

میں اپنا ReSPECT فارم کہاں رکھوں؟

آپ کا **ReSPECT** فارم گھر میں ایک محفوظ جگہ پر ہونا چاہیے جہاں اگر آپ بیمار ہوں تو ہنگامی صورتحال میں یہ قابل رسائی ہو۔ کچھ لوگ اسے دروازے کے پاس ہنگامی فولڈر میں رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں۔

اگر آپ ہسپتال میں آتے ہیں تو آپ کا اپنے ساتھ **ReSPECT** فارم لانا بہت ضروری ہے۔

کیا ReSPECT فارم تبدیل ہوسکتا ہے؟

اگر آپ کی حالت یا حالات تبدیل ہوجاتے ہیں، یا اگر آپ کسی بھی وجہ سے اپنا خیال تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو، **ReSPECT** منصوبہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی صحت کی دیکھ بھال کی ٹیم کے صرف ایک رکن سے بات کریں۔

اگر آپ کے **ReSPECT** کے بارے میں سوالات ہیں تو براہ مہربانی اپنی صحت کی دیکھ بھال کی ٹیم سے بات کریں۔



فیصلے کون کرتا ہے؟

آپ کے خیالات/ تجزیے نہایت اہم ہیں۔ صحت کے پیشہ ور آپ کے ساتھ ایک مشترکہ اتفاق کردہ منصوبہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریسپیکٹ فارم ایسا علاج مانگنے کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا جو آپ کے لیے فائدہ دینے کے قابل نہیں ہے اور یہ پیش نہیں کیے جائیں گے۔

ReSPECT منصوبے کی تجاویز قانونی طور پر پابند کرنے والی نہیں ہیں، تاہم وہ ہنگامی صحت کی دیکھ بھال کی ٹیم کے لئے گائیڈ ہیں۔



کس قسم کے علاج شامل ہیں/ ہو سکتے ہیں؟

صحت کا پیشہ ور آپ کے ساتھ مختلف علاج کے انتخابات پر تبادلہ خیال کرے گا اور اس کا خلاصہ فارم پر درج کیا جائے گا۔

کارڈیوپلیمونری ریسسیٹیشن (سی پی آر) [cardiopulmonary resuscitation] کے بارے میں فیصلے کی دستاویز کے لئے ایک خاص سیکشن ہے۔ سی پی آر زندگی کا ایک مصنوعی معاون علاج ہے جو کچھ حالات میں، دل یا پھیروں کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ سی پی آر حد درجے کی پیچیدہ صحت کی حالت والے لوگوں میں بہت ہی کم کامیاب ہے اور وہ لوگ جو قدرتی طور پر مرتے ہیں ان میں کام نہیں کرتا۔ اگر سی پی آر آپ کو فائدہ سے زیادہ نقصان پہنچائے گا تو اس کی آپ کو وضاحت کی جائے گی۔ بعض مریض خود فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ یہ علاج نہیں چاہتے ہیں۔

اگر شخص میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو؟

آپ اس شخص کی دیکھ بھال کرنے والے فرد ہو سکتے ہیں جس میں صلاحیت کی کمی ہو (معلومات کو سمجھنے کی صلاحیت اور مطلع انتخاب کرکے اسے استعمال کرنے کی صلاحیت کی کمی)۔ اس صورتحال میں ایک **ReSPECT** منصوبہ بنایا جا سکتا ہے جس میں ان کے بہترین مفادات پر اتفاق کیا جائے (ان کے مجموعی فائدہ کے لئے) یہ محض دوسروں کا آپ کے لیے فیصلہ نہیں ہے، جبکہ ان کے ساتھ بحث کا عمل ہے جو اس شخص کو جانتے ہیں تاکہ یقینی بنایا جائے کہ منصوبہ جتنا ممکن ہو اس کے قریب ہو جو اس فرد نے چاہا ہوگا۔

ReSPECT کیا ہے؟

ReSPECT ایک ایسا عمل ہے جہاں آپ اور ہیلتھ کیئر کی ٹیم ایک ساتھ بات کرتے ہیں اور مستقبل میں ممکنہ ہنگامی علاج کے لئے ایک ذاتی منصوبہ بندی تیار کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ آپ اپنی ذاتی صورت حال کے لئے بہترین ممکنہ علاج حاصل کریں۔ یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹروں اور نرسوں کو معلوم ہو کہ آپ، مریض کے طور پر کس طرح علاج کرانا چاہتے ہیں۔ تاکہ وہ آپ کی خواہشات کا احترام کر سکیں۔

صحت کی دیکھ بھال کی ٹیم میں طبی علم موجود ہے کہ کونسے مختلف ہنگامی علاج آپ کے لئے مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔ لیکن ان ہنگامی علاج کے بارے میں آپ کی خواہشات اور نقطہ نظر پہلے سے جاننا بہت مفید ہے۔ یہ خاص طور پر مستقبل کے بحران میں ایسی صورت حال کیلئے اہم ہے جب ہو سکتا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے وقت بہت زیادہ بیمار ہوں۔

آپ کے ساتھ اس پر بات کرنے کے بعد، ڈاکٹر یا نرس آپ کے **ReSPECT** منصوبہ کا خلاصہ ایک فارم میں مکمل کریں گے۔ آپ کے پاس منصوبہ بندی کی کوئی اور اہم دستاویزات ہوں تو ان کو درج کرنے کے لیے فارم میں ایک حصہ ہے [مثلاً علاج سے انکار کرنے کے لئے ایک ایڈوانس ڈائریکٹو، جسے زندہ وصیحت بھی کہتے ہیں] اور ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں لکھا جائے کہ ہنگامی صورت حال میں کس سے رابطہ کیا جائے۔

ReSPECT فارم آپ کے ساتھ گھر میں رکھا جاتا ہے۔ تاکہ آپ یا آپ کا کیئرر اسے ہنگامی حالت میں صحت کے پیشہ ور افراد کو دکھا سکے۔

اگر آپ ہسپتال آتے ہیں تو اپنے ساتھ آپ کا **ReSPECT** فارم لانا بہت ضروری ہے۔

ہسپتال کے کسی بھی قیام کے دوران **ReSPECT** فارم طبی نوٹوں میں رکھا جاتا ہے، لیکن خارج (ڈسچارج) ہونے پر آپ کو واپس دے دیا جاتا ہے۔

